



عزیزی والدین یا سرپرست:

ہر سال، آپکے اسکول نرس کو آپ اور آپکے ڈاکٹر دونوں کے دستخط شدہ مکمل کیے ہوئے نئے ذیابیطس فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجدید کردہ معلومات اسکول نرس کو بتاتی ہیں کہ آیا آپکے صحتیاتی نگہداشت فراہم کنندہ نے آپکے بچے کی دوا یا علاج میں گزشتہ سال کوئی تبدیلیاں کی ہیں۔ اسکول نرس کو یہ معلومات آپکے بچے کا مناسب علاج کرنے کے لیے درکار ہیں۔

2021-2020 کے لیے ذیابیطس فارم منسلک ہیں۔ براہ مہربانی اسکو جتنی جلد ممکن ہو مکمل کریں۔ ذیابیطس کی دوائی دینے کے فارم (DMAF) کو **1 جون، 2020 تک یا جلد از جلد جمع کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔** اس سے اسکول کے ڈاکٹر کو فارموں کا جائزہ لینے کا وقت مل جاتا ہے اور وہ اسے یقینی بنانے گا کہ آپ کا بچہ ستمبر 2020 میں شروع ہونے والے تعلیمی سال سے منظور شدہ خدمات وصول کر سکے۔ جب آپکا ڈاکٹر ذیابیطس فارم مکمل کر لے، براہ مہربانی فارم کے اوپر بائیں کونے پر آپکے بچے کی مناسب شناخت کی تصدیق کے لیے ایک چھوٹی تصویر منسلک کریں۔

ذیابیطس کی دوائی دینے کے فارم کو ذیل پر بذریعہ ڈاک بھیجیں:

DMAF Coordinator
New York City Department of Health & Mental Hygiene
Office of School Health
Gotham Center
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714

یا آپ اس فارم کو 347-396-8945 یا 347-396-8932 پرفیکس کر سکتے ہیں۔ برائے کرم فارم کے دونوں جانب کو فیکس کرنے کو یقینی بنائیں۔

اگر آپ کے بچے کے پاس اسکول پر مبنی 504 سہولیات منصوبہ موجود ہے، آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اپنی 504 تجدیدی درخواست کو اپنے اسکول کے 504 رابطہ کار کے پاس جمع کروائیں۔ 504 ٹیم کو یہ معلومات آپ کے بچے کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے درکار ہیں۔ ایسا کرنے سے 504 ٹیم تعلیمی سال کے آغاز سے قبل ایک اجلاس کا انعقاد کرنے کے قابل ہو گی اور 2020-21 کے تعلیمی سال کے لیے ایک سہولت منصوبہ بن جائے گا۔

اگر آپکے کوئی سوالات ہوں تو براہ مہربانی اپنے اسکول کے 504 رابطہ کار سے بات کریں یا 718-310-2405 پر فون کریں۔

آپکا شکریہ،

Dr. Cheryl Lawrence

میڈیکل ڈائریکٹر

اسکول کا دفتر برائے صحت